

تراویح کے بعد تہجد پڑھنا کیسا؟
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر میں عشاء پڑھنے کے بعد اچانک سو جاؤں تو کیا میں تراویح پڑھنے کے بعد تہجد پڑھ سکتی ہوں؟

سائلہ: وہیبہ (انڈیا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

جی ہاں اس صورت میں آپ تراویح کے بعد تہجد پڑھ سکتی ہیں کیونکہ تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ردالمحتار میں علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں:

"إِنَّمَا التَّهَجُّدُ الْمَرَّةُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ" محض تہجد یہ ہے کہ آدمی سونے کے بعد نماز پڑھے۔

اور آگے علامہ شامی فرماتے ہیں: "أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ حَدِيثَ الطَّبْرَانِيِّ الْأَوَّلَ بَيَانٌ لِكَوْنِ وَقْتِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ" میں کہتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ طبرانی کی حدیث اول اس بات کا بیان ہے کہ تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد ہوتا ہے۔

("ردالمحتار"، کتاب الصلاة، باب الوتر و النوافل، مطلب في صلاة الليل، ج 2، ص 24) اور بہار شریعت میں ہے: اسی صلاة اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشا کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں، سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں۔

(بہار شریعت ج 1 حصہ 4 ص 677 مکتبہ المدینہ)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date:10-9-2018

How is to pray Tahajjud after Tarāwīh?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: If I unexpectedly went to sleep after praying 'Ishā, can I pray Tahajjud after Tarāwīh?

Questioner: Waheebah from India

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

Yes. In this case, you may pray Tahajjud after Tarāwīh because one needs to sleep after 'Ishā for Tahajjud. Just as 'Allāmah Ibn 'Ābidīn Shāmī states in Radd al-Muhtār,

"إِنَّمَا التَّهَجُّدُ الْمَرْءُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ بَعْدَ رَفْدَةٍ"

"Tahajjud is only the praying of salāh after sleeping."

'Allāmah Shāmī further states,

"أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ حَدِيثَ الطَّبْرَانِيِّ الْأَوَّلَ بَيَانٌ لِكَوْنِ وَقْتِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ"

"I say that it is clear that the starting of the Hadīth of Tabarānī is that the time of Tahajjud is after 'Ishā salāh."

[Radd al-Muhtār, vol 2, pg 24]

Moreover, it is stated in Bahār-e-Sharī'at that one type of the same Salāh al-Layl is Tahajjud. The method of performing Tahajjud salāh is to sleep at night, then awaken (at night) and perform (these) nafls; whatever is performed before sleep is not regarded as Tahajjud.

[Bahār-e-Sharī'at, vol 1, part 4, pg 677]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali